

Amazigh Ramdane At Mansour

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ^{صل} رَبَّنَا عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Ni\$ illa i kunwi umedy a ucbiê di Ibôahim akked wid illan yides, mi
nnan i ugdud nnsen: "nemgirred ikwen, kunwi akked wayen teppanzem,
war Öebbi. Nenkeô ikwen. Taâdawt akked dd\$el, ersen d garane\$, i
lebda, alamma tumnem s Öebbi Yiwen". Kkes ed awalen i inna Ibôahim,
i baba s: "ad velbe\$ a ppeppusemmêev, xas ur iyi Ikellef Öebbi, fellak, s
wacemma". A Mass nne\$! Ppkal nne\$ fellaK; nutub iK; \$uôeK tu\$alin.